

12 اپریل 2018

سٹی، برامپٹن میں پہلا سپورٹس ڈے منعقد کر رہا ہے

تشریف لائیں اور 21 اپریل کو کسی نئے کھیل کو مفت آزمائیں

برامپٹن، آن - شہریوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ مورخہ 21 اپریل کو برامپٹن میں پہلی مرتبہ منعقد ہونے والے سپورٹس ڈے میں تشریف لائیں اور اپنی کمیونٹی کے کھیلوں کے بارے میں جانیں۔

برامپٹن ساکر سنٹر اور کیسی کیمپیل کمیونٹی سنٹر میں صبح 10 اور شام 4 بجے کے دوران مفت داخلے کے ذریعے تشریف لائیں اور کوئی نیا کھیل آزمائیں۔ خصوصی کھیلوں میں شامل ہیں؛ بیس بال، لیکروس، ساکر، ٹریک، فٹ بال، مارشل آرٹس، جمناسٹک، وہیل چیئر باسکٹ بال، ہاکی، تیراکی اور مزید بہت کچھ۔

اس موقع کے پروگراموں کو شہری انتظامیہ اور اس سے الحاق شدہ نوجوانوں کی تنظیموں اور برامپٹن سپورٹس الائنس کے علاوہ دیگر کمیونٹی سپورٹ پرووائیڈرز نے ترتیب دیا ہے۔ خاندانوں کا خیر مقدم کیا جاتا ہے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے لوکل مائنر اسپورٹ گروپس سے مربوط ہوں، ان کے پروگراموں اور شہر بھر میں موجود رنگا رنگ سرگرمیوں کے بارے میں مزید جانیں۔ انعام جیتنے کے موقع میں شامل ہونے کے لیے تقریب کی 3 عدد اسٹیمپس حاصل کریں!

تقریبات کے مکمل شیڈول کے لیے، ملاحظہ کریں <http://www.brampton.ca>

دلچسپ حقائق:

- برامپٹن میں: 233 سے زیادہ آؤٹ ڈور/ان ڈور سپورٹس فیلڈز، 36 تفریحی سہولت گاہیں، 18 آئس پیڈز، 13 سوئمنگ پولز، 7 فٹنس سنٹرز، 4 آؤٹ ڈور اسکیٹنگ رنکس، 1 عدد 9 بول پبلک گالف کورس اور 1 اسکی بل موجود ہے
- سٹی کی چوٹی کی 3 رجسٹریشنز ان میں ہوتی ہیں: سوئمنگ، کیمپس اور اسکیٹنگ
- نوجوانوں کے کھیلوں کے 21 الحاق شدہ گروپس ہیں جن میں شرکاء کی تعداد 20,000 ہے اور شہر میں بالغان کے لیے 80 کمیونٹی گروپس موجود ہیں۔

اقتباس:

"برامپٹن کے پاس کھیلوں کی شاندار تاریخ، بڑھتے ہوئے بیمٹال اٹھیلیٹس اور کھیلوں کے دیوانے شائقین موجود ہیں۔ کھیلیں لطف کا ایک بڑا ذریعہ ہیں جن سے دوست بنائے جا سکتے ہیں اور ایک صحت مندانہ اور چست انداز زندگی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اسپورٹ ڈے نوجوانوں کے لیے ایک شاندار موقع ہے جس میں وہ کھیلوں کے مختلف آپشنز کی چھان بین کر سکتے ہیں اور اپنے من پسند کھیل تک پہنچ سکتے ہیں۔"

- میئر لنڈا جیفری

-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع آرین سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نثر ہو۔ ہمیں فالو کریں [ٹویٹر](http://www.brampton.ca) اور [فیس بک](http://www.brampton.ca)۔ مزید جاننے کے لیے <http://www.brampton.ca> ملاحظہ فرمائیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

نتالی سٹوگڈیل
میڈیا کوارڈینیٹر
سٹی آف برامپٹن

<mailto:natalie.stogdill@brampton.ca> | 905.874.3654